

سبق-1: کورس کا تعارف اور تعویذ	
7	أَعُوذُ
2550	بِاللَّهِ
2471	مِنْ
88	شَيْطَانِ، شَيْطَانِينَ ⁺ شَيْطَانِ
6	الْكَرِيمِ
481	هُوَ
444	هُمْ
81	أَنْتَ
68	أَنَا
135	أَنْتُمْ
86	نَحْنُ
831	مَنْ
سبق-2: سُورَةُ الْفَاتِحَةِ (1-3)	
39	إِسْمِ، ⁺ أَسْمَاءِ
57	الْكَرِيمِ
115	الْكَرِيمِ
27	كَرِيمِ
43	الْحَمْدِ
149	لِلَّهِ
199	رَبِّ
73	الْعَالَمِينَ
20	مُسْلِمِ كَيْ جَمْعِ مُسْلِمُونَ يَأْتِي مُسْلِمِينَ
230	مُؤْمِنِ
49	مُشْرِكِ
134	كَافِرِ، كَافِرُونَ
136	صَالِحِ (نَبِي صَالِحِ) نَبِيِّكَارِ
سبق-3: سُورَةُ الْفَاتِحَةِ (4-5)	
3	مَلِكِ
405	يَوْمِ
92	الَّذِينَ
24	إِيَّاكَ
1	نَعْبُدُ
1	نَسْتَعِينُ
772	لفظوں مختلف شمار کے ساتھ 772 مرتبہ آیا ہے
	رَبُّهُ
	رَبُّهُمْ
	رَبُّكَ
	رَبِّي
	رَبُّكُمْ
	رَبُّنَا
2154	مَا

سبق-4: سُورَةُ الْفَاتِحَةِ (6-7)	
2	إِهْدِنَا
45	الصِّرَاطِ
37	الْمُسْتَقِيمِ
1080	الَّذِينَ
5	أَنْعَمْتَ
216	عَلَيْهِمْ
147	غَيْرِ
1	الْمَغْضُوبِ
1687	وَلَا
14	الضَّالِّينَ
64	هِيَ
	رَبُّهَا
	مُسْلِمَةً
	مُسْلِمَاتِ
سبق-5: اِذَانِ	
23	أَكْبَرِ
1	أَشْهَدُ
571	أَنَّ
359	أَنَّ
4	مُحَمَّدٍ
332	رَسُولِ
	حَيِّ
83	الصَّلَاةِ
	الْفَلَاحِ
39	كَبِيرِ
63	كَبِيرِ
88	أَكْثَرِ
1361	لِ+ه، هُمْ... لِي
744	مِنْ+ه، هُمْ... س
416	عَنْ+ه، هُمْ... س، بارے میں
سبق-6: الصَّلَاةُ... قَدْ قَامَتْ... وَضُوءُ كَعْبَدِ	
176	خَيْرِ
3	نَوْمِ
	قَدْ
40	شَرِيكَ ⁺ شَرِيكَ
	بِ+ه، هُمْ... س، ساتھ
	فِي+ه، هُمْ... میں
	عَلَى+ه، هُمْ... پر
	سَبِيلِ ⁺ سَبِيلِ
	رَاسْتِ

سبق-7: رُكُوعُ، رُكُوعُ كَعْبَدِ بَعْدَ رُكُوعِ كَعْبَدِ دَعَائِي	
41	شَبَّحْنَا
107	الْعَظِيمِ
1	مِلَّةَ
461	أَرْضِ
310	سَمَاءِ ⁺ سَمَوَاتِ
266	بَيْنِ
3	شَيْئِ
283	شَيْءِ، أَشْيَاءِ ⁺ شَيْءِ
198	بَعْدِ
11	عَلَيَّ
9	أَعْلَى
736	إِلَى+ه، هُمْ... طرف
163	مَعَ+ه، هُمْ... ساتھ
197	عِنْدَ+ه، هُمْ... پاس
4	رَاجِعُونَ
4	قَلَمِ، +أَقْلَامِ
21	كَمِ
سبق-8: تَشْبِيهِ	
6	التَّحِيَّاتِ
	الصَّلَوَاتِ
46	طَيِّبِ، ⁺ طَيِّبَاتِ
42	السَّلَامِ
75	النَّبِيِّ ⁺ أَنْبِيَاءِ، نَبِيِّنَ نَبِي (الْمُرْسَلِينَ)
114	رَحْمَةً ^{***}
3	بَرَكَاتِ
125	عَبْدِ، ⁺ عِبَادِ
	صَالِحِينَ
225	هَذَا
47	هَذِهِ
478	ذَلِكَ
43	تِلْكَ
46	هَؤُلَاءِ
204	أُولَئِكَ
سبق-9: دَرُودِ (مُحَمَّدٍ ﷺ) كَعْبَدِ لِي دَعَا	
5	اللَّهُمَّ
2	صَلِّ ^{***}
26	الِ
	كَمَا
69	إِبْرَاهِيمَ
17	حَمِيدِ

سبق-10: نَمَازُ كَعْبَدِ كَعْبَدِ دَعَائِي	
4	مَجِيدِ
	بَارِكْ
	بَارَكْتَ
	فَعَلَ
	فَعَلُوا
	فَعَلْتَ
	فَعَلْتُ
	فَعَلْتُمْ
	فَعَلْنَا
233	جَعَلَ
8	فَتَحَ
سبق-11: نَمَازُ كَعْبَدِ كَعْبَدِ دَعَائِي	
9	اتِ ^{***}
115	الدُّنْيَا
31	حَسَنَةً، ⁺ حَسَنَاتِ
115	الْآخِرَةِ
5	قِ ^{***}
322	عَذَابِ
	النَّارِ
	أَعِنِ ^{***}
1	شُكْرِ ^{***}
13	خَسَنِ
10	نَصَرَ
150	خَلَقَ
7	ذَكَرَ
46	عَبَدَ
سبق-12: نَمَازُ كَعْبَدِ كَعْبَدِ دَعَائِي	
332	قُلْ
74	أَحَدِ
1	الصَّمَدِ
348	لَمْ
1	يَلِدْ ^{***}
1	يُؤَلِّدْ ^{***}
31	يَكُنْ ^{***}
1	كُفُّوا
530	قَالَ ^{***}
332	قَالُوا ^{***}
106	لَنْ
22	صَرَبَ
30	سَمِعَ
35	عِلْمَ

99	عَمِلَ	اس نے عمل کیا
سبق-12: سُورَةُ الْفَلَقِ		
1	الْفَلَقِ ***	صبح
30	شَرَّ	شر، برائی
1	عَاسِقٍ ***	اندھیرا
423	إِذَا	جب
1	وَقَبٍ ***	وہ چھاجائے
1	الْتَفَفْتُ	پھونکیں مارنے والیاں
4	الْعُقَدِ	گریں، گانٹھیں
1	حَاسِبٍ ***	حسد کرنے والا
1	حَسَدٍ ***	اس نے حسد کیا
239	إِذْ	جب
سبق-13: سُورَةُ النَّاسِ		
13	مَلِكٍ	بادشاہ
145	إِلَهٍ	معبود
1	الْوَسْوَاسِ ***	وسوسہ ڈالنے والا
44	صَدْرٍ، + صُدُورٍ	سینہ (دل)
1	الْخَنَاسِ	ٹھپ ٹھپ کر حملہ کرنے والا
1	يُوسِسُ ***	وسوسہ ڈالتا ہے
32	الْحِجَّةِ	جنات
88	مَلِكٍ + مَلَائِكَةٍ	فرشتہ
سبق-14: سُورَةُ الْعَصْرِ		
1	وَالْعَصْرِ	قسم ہے زمانہ کی
1534	إِنَّ	بے شک
65	الْإِنْسَانَ	انسان
2	خُسْرٍ ***	خسارہ، گھانا
664	إِلَّا	سوائے
258	أَمِنُوا	وہ سب ایمان لائے
258	تَوَاصَوْا	ایک دوسرے کو وصیت کی
247	بِالْحَقِّ	حق کی
15	الصَّبْرِ	صبر
20	صَابِرٍ، صَابِرِينَ، صَابِرُونَ	صبر کرنے والا
691	إِنْ	اگر
56	شَاءَ	اس نے چاہا (وہ چاہے)
280	أَوْ	یا
سبق-15: سُورَةُ النَّصْرِ		
171	جَاءَ	وہ (یا) آجائے
	الْفَتْحِ	فتح
25	رَأَيْتَ	آپ نے دیکھا
241	النَّاسِ	لوگ
13	يَدْخُلُونَ	داخل ہو رہے ہیں
7	فَوْجٍ + أَفْوَاجٍ	فوج
16	سَبَّحَ ***	پاک بیان کیجیے!
10	اسْتَغْفِرُ ***	بخشش طلب کیجیے!
422	كَانَ ***	وہ ہے (تھا)
12	تَوَابٍ، + تَوَابِينَ	بڑا قوبہ قبول کرنے والا

98	عَمِلَ	اس نے عمل کیا
سبق-16: سُورَةُ الْكٰفِرُوْنَ		
361	يَا	اے
153	يٰٓاَيُّهَا	اے
	أَعْبُدُ	میں عبادت کرتا ہوں
	عَابِدٍ + عٰبِدُونَ	عبادت کرنے والا
383	قَوْمٍ	قوم
سبق-17: نزولِ قرآن کا مقصد		
261	كِتٰبٍ، + كِتٰبٍ	کتاب
55	أَنْزَلْنَا ***	ہم نے نازل کیا
12	مُبْرَكٍ ***	برکت والی
1	لِيَذَّبَ تٰرُوٓا ***	تاکہ وہ غور کریں
382	آيَةٍ + آيَاتٍ	آیت
8	لِيَتَذَكَّرَ ***	تاکہ وہ نصیحت پکڑے
43	أُولَآءِ	والے
16	الْأَنْبَآبِ	عقل (جمع)
201	بَلِّغُوا ***	پہنچا دو!
	لَوْ	اگرچہ
سبق-18: قرآن آسان ...		
406	لَقَدْ، قَدْ	البتہ تحقیق، تحقیق
6	يَسِّرْنَا ***	ہم نے آسان کیا
70	الْقُرْآنَ	قرآن
2	تَعَلَّمُ ***	اس نے سیکھا
14	عَلَّمَ ***	اس نے سکھایا
145	إِنَّمَا	بس، صرف، محض
41	أَعْمَالٍ	اعمال
	نِيَّاتٍ	نیت
سبق-19: قرآن سیکھنے کی دعا...		
3	رِذِّ ***	زیادہ کر
304	الَّذِي	جس نے
	قَلَمٍ + أَقْلَامٍ	قلم
59	أَيُّكُمْ	کون تم میں سے
19	حَسَنٍ	اچھا
36	أَحْسَنٍ	زیادہ اچھا
	عَمَلًا	عمل کے اعتبار سے
20	عَابِدٍ، مَعْبُودٍ، عِبَادَةَ	عبادت
3	ضَارِبٍ، مَضْرُوبٍ، ضَرْبٍ	ضرب
22	سَامِعٍ، مَسْمُوعٍ، سَمْعٍ	سماع
134	عَالِمٍ، مَعْلُومٍ، عِلْمٍ	علم
42	عَامِلٍ، مَعْمُولٍ، عَمَلٍ	عمل

97	عَمِلَ	اس نے عمل کیا
سبق-12: سُورَةُ الْفَلَقِ		
1	الْفَلَقِ ***	صبح
30	شَرَّ	شر، برائی
1	عَاسِقٍ ***	اندھیرا
423	إِذَا	جب
1	وَقَبٍ ***	وہ چھاجائے
1	الْتَفَفْتُ	پھونکیں مارنے والیاں
4	الْعُقَدِ	گریں، گانٹھیں
1	حَاسِبٍ ***	حسد کرنے والا
1	حَسَدٍ ***	اس نے حسد کیا
239	إِذْ	جب
سبق-13: سُورَةُ النَّاسِ		
13	مَلِكٍ	بادشاہ
145	إِلَهٍ	معبود
1	الْوَسْوَاسِ ***	وسوسہ ڈالنے والا
44	صَدْرٍ، + صُدُورٍ	سینہ (دل)
1	الْخَنَاسِ	ٹھپ ٹھپ کر حملہ کرنے والا
1	يُوسِسُ ***	وسوسہ ڈالتا ہے
32	الْحِجَّةِ	جنات
88	مَلِكٍ + مَلَائِكَةٍ	فرشتہ
سبق-14: سُورَةُ الْعَصْرِ		
1	وَالْعَصْرِ	قسم ہے زمانہ کی
1534	إِنَّ	بے شک
65	الْإِنْسَانَ	انسان
2	خُسْرٍ ***	خسارہ، گھانا
664	إِلَّا	سوائے
258	أَمِنُوا	وہ سب ایمان لائے
258	تَوَاصَوْا	ایک دوسرے کو وصیت کی
247	بِالْحَقِّ	حق کی
15	الصَّبْرِ	صبر
20	صَابِرٍ، صَابِرِينَ، صَابِرُونَ	صبر کرنے والا
691	إِنْ	اگر
56	شَاءَ	اس نے چاہا (وہ چاہے)
280	أَوْ	یا
سبق-15: سُورَةُ النَّصْرِ		
171	جَاءَ	وہ (یا) آجائے
	الْفَتْحِ	فتح
25	رَأَيْتَ	آپ نے دیکھا
241	النَّاسِ	لوگ
13	يَدْخُلُونَ	داخل ہو رہے ہیں
7	فَوْجٍ + أَفْوَاجٍ	فوج
16	سَبَّحَ ***	پاک بیان کیجیے!
10	اسْتَغْفِرُ ***	بخشش طلب کیجیے!
422	كَانَ ***	وہ ہے (تھا)
12	تَوَابٍ، + تَوَابِينَ	بڑا قوبہ قبول کرنے والا

96	عَمِلَ	اس نے عمل کیا
سبق-16: سُورَةُ الْكٰفِرُوْنَ		
361	يَا	اے
153	يٰٓاَيُّهَا	اے
	أَعْبُدُ	میں عبادت کرتا ہوں
	عَابِدٍ + عٰبِدُونَ	عبادت کرنے والا
383	قَوْمٍ	قوم
سبق-17: نزولِ قرآن کا مقصد		
261	كِتٰبٍ، + كِتٰبٍ	کتاب
55	أَنْزَلْنَا ***	ہم نے نازل کیا
12	مُبْرَكٍ ***	برکت والی
1	لِيَذَّبَ تٰرُوٓا ***	تاکہ وہ غور کریں
382	آيَةٍ + آيَاتٍ	آیت
8	لِيَتَذَكَّرَ ***	تاکہ وہ نصیحت پکڑے
43	أُولَآءِ	والے
16	الْأَنْبَآبِ	عقل (جمع)
201	بَلِّغُوا ***	پہنچا دو!
	لَوْ	اگرچہ
سبق-18: قرآن آسان ...		
406	لَقَدْ، قَدْ	البتہ تحقیق، تحقیق
6	يَسِّرْنَا ***	ہم نے آسان کیا
70	الْقُرْآنَ	قرآن
2	تَعَلَّمُ ***	اس نے سیکھا
14	عَلَّمَ ***	اس نے سکھایا
145	إِنَّمَا	بس، صرف، محض
41	أَعْمَالٍ	اعمال
	نِيَّاتٍ	نیت
سبق-19: قرآن سیکھنے کی دعا...		
3	رِذِّ ***	زیادہ کر
304	الَّذِي	جس نے
	قَلَمٍ + أَقْلَامٍ	قلم
59	أَيُّكُمْ	کون تم میں سے
19	حَسَنٍ	اچھا
36	أَحْسَنٍ	زیادہ اچھا
	عَمَلًا	عمل کے اعتبار سے
20	عَابِدٍ، مَعْبُودٍ، عِبَادَةَ	عبادت
3	ضَارِبٍ، مَضْرُوبٍ، ضَرْبٍ	ضرب
22	سَامِعٍ، مَسْمُوعٍ، سَمْعٍ	سماع
134	عَالِمٍ، مَعْلُومٍ، عِلْمٍ	علم
42	عَامِلٍ، مَعْمُولٍ، عَمَلٍ	عمل



پیکٹ ایک برائے الفاظ و معانی

آؤ قرآن سمجھیں - آسان طریقے سے

نماز کے ذریعہ

تالیف:

ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم

بانی و ڈائریکٹر: انڈر اسٹینڈنگ القرآن اکیڈمی

www.understandquran.com